

ڈیازٹ اکاؤنٹس کے لیے ضروری معلومات کا گوشوارہ ¹					
تاریخ : مدت جولائی- دسمبر 2025				الائیڈ بینک لمیٹڈ ، برانچ، _____ (شہر)	
اہم معلومات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو غور سے پڑھیں۔ آپ اس دستاویز کو دیگر بینکوں کے پیش کردہ اکاؤنٹس سے موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے دیگر بینکوں سے بنیادی معلومات طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔					
اکاؤنٹ کی نوعیت اور نمایاں خصوصیات :یہ معلومات درج بالا تاریخ تک درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ میں ماہانہ بنیادوں پرتبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آپ ڈیٹیلڈ فیسوں /چارجز کی معلومات ہماری ویب سائٹ یا بینک کی شاخوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔					
روایتی				تفصیلات	
الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن آسان کرنٹ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن کرنٹ اکاؤنٹ		
روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	کرنسی(پاکستانی روپیہ، یو ایس ڈالر ، یورو،وغیرہ)	
100/-Rs.	2000/-Rs.	100/-Rs.	2000/-Rs.	اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس (اگر کوئی ہے تو رقم درج کریں)	اکاؤنٹ کھولنے کے لیے
100,000/-Rs.	100,000/-Rs.	50,000/-Rs.	50,000/-Rs.		اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے لیے
140/-Rs	140/-Rs	140/-Rs.	140/-Rs.	اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کی فیس (اگر کوئی ہے تو رقم درج کریں)	
ہاں	ہاں	نہیں	نہیں	کیا اکاؤنٹ پرمنافع ادا کیا جاتا ہے (ہاں /نہیں) قابل اطلاق شرح ٹیکس سے مشروط	
9.50%	9.50%	0	0	متوقع شرح منافع۔(%)	
ششماہی	ششماہی	-	-	منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی(روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)	
47.50	47.50	-	-	مثال دیں : (مذکورہ مدت میں آپ ہر 1000 روپے پر -----روپے کما سکتے ہیں)	
-	-	-	-	قبل از وقت/جلد رقم نکلوانے کی فیس (اگر کوئی ہے تو رقم/ریٹ درج کریں)	
سروس چارجز					
اہم نوٹ: اس اکاؤنٹ کے اہم سروس چارجز کی فہرست درج ذیل ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست [ذرائع کی وضاحت کریں – مثلاً "ہماری شاخوں ، ہماری ویب سائٹ www.abl.com " پر ملاحظہ کر سکتے ہیں]۔ براہ مہربانی نوٹ فرما لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔					
روایتی				طریقہ کار	سروسز
[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے روایتی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]					
الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن آسان کرنٹ اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن کرنٹ اکاؤنٹ		
کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر: Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے <u>چیک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 500,000 پر: Rs. 465 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.10 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے <u>بانئو میٹرک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 500,000 پر: Rs. 465 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.10 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر: Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے <u>چیک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 500,000 پر: Rs. 465 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.10 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے <u>بانئو میٹرک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 500,000 پر: Rs. 465 روپے 500,000 سے زیادہ: 0.10 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	بیرون شہر	کیش ٹرانزیکشنز
<u>کیش جمع کرنا=0</u> نقد رقم نکالنے کے مفت 2 لین دین <u>چیک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 250,000 پر: Rs. 20 روپے 250,000 سے زیادہ: کوئی چارجز نہیں <u>بانئو میٹرک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 50	<u>کیش جمع کرنا=0</u> نقد رقم نکالنے کے مفت 2 لین دین <u>چیک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 250,000 پر: Rs. 20 روپے 250,000 سے زیادہ: کوئی چارجز نہیں <u>بانئو میٹرک کے ذریعے کیش نکالنا</u> روپے 50	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	اندرون شہر	
0	0	0	0	اپنے اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا	
-/23.44روپے بشمول FED یا - لنک کے ذریعہ وصول کی جانے والی فیس	-/23.44روپے بشمول FED یا - لنک کے ذریعہ وصول کی جانے والی فیس	-/23.44روپے بشمول FED یا - لنک کے ذریعہ وصول کی جانے والی فیس	-/23.44روپے بشمول FED یا - لنک کے ذریعہ وصول کی جانے والی فیس	دیگر بینکوں کی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا	
0	0	0	0	اے ڈی سی /ڈیجیٹل کلیئرنگ	
400 روپے ماہانہ	400 روپے ماہانہ	200 روپے ماہانہ	200 روپے ماہانہ	ایس ایم ایس الرٹس	
400 روپے ماہانہ	400 روپے ماہانہ	200 روپے ماہانہ	200 روپے ماہانہ	دیگر ٹرانزیکشنز کے	

لیے					
ویزا کلاسک	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 2900	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 2900	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 2900	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 2900	
پلاٹینم	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 6000 <u>سیلیمنٹری</u> کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 6000 <u>سیلیمنٹری</u> کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	دستیاب نہیں	ڈیٹ کارڈز
پریمیم	کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 19500 <u>سیلیمنٹری</u> کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 13750	دستیاب نہیں فیس	کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 19500 <u>سیلیمنٹری</u> کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 13750	دستیاب نہیں	
یو پی آئی اور پے پیک کلاسک	پہلے سال کے لیے مفت اور اس کے بعد سالانہ چارجز عائد ہوں گے کارڈ تبدیلی فیس 1300 سالانہ فیس 2800	پہلے سال کے لیے مفت اور اس کے بعد سالانہ چارجز عائد ہوں گے کارڈ تبدیلی فیس 1300 سالانہ فیس 2800	پہلے سال کے لیے مفت اور اس کے بعد سالانہ چارجز عائد ہوں گے کارڈ تبدیلی فیس 1300 سالانہ فیس 2800	پہلے سال کے لیے مفت اور اس کے بعد سالانہ چارجز عائد ہوں گے کارڈ تبدیلی فیس 1300 سالانہ فیس 2800	
یو پی آئی اور پے پیک گولڈ	کارڈ تبدیلی فیس 1550 سالانہ فیس 3000	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 1550 سالانہ فیس 3000	کارڈ تبدیلی فیس 1550 سالانہ فیس 3000	
بنیادی ڈیٹ کارڈ	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2000	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2000	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2000	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2000	
چیک بک	اجراء	فی چیک 25 روپے	فی چیک 25 روپے	فی چیک 25 روپے	
	ادائیگی روکنا	750روپے فی ہدایت	750روپے فی ہدایت	750روپے فی ہدایت	
	لوز چیک	سہولت دستیاب نہیں	سہولت دستیاب نہیں	سہولت دستیاب نہیں	

سروسز	طریقہ کار	روایتی			
		[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے روایتی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]			
		الائیڈ سینئر سٹیزن سٹیزن سٹیزن کرنت اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن سٹیزن سٹیزن کرنت اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن سٹیزن سٹیزن کرنت اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن سٹیزن سٹیزن کرنت اکاؤنٹ
ترسیلاتِ زر(مقامی)	بینکر چیک/ بے آرڈر	چیک کے عوض جاری: Rs. 600: <u>چیک کے عوض جاری</u> کی شرح: 0.20%، یا کم از کم 1250 روپے	چیک کے عوض: Rs. 300: <u>چیک کے عوض جاری</u> کی شرح: 0.20%، یا کم از کم 1250 روپے	چیک کے عوض: Rs. 300: <u>چیک کے عوض جاری</u> کی شرح: 0.20%، یا کم از کم 1250 روپے	چیک کے عوض: Rs. 300: <u>چیک کے عوض جاری</u> کی شرح: 0.20%، یا کم از کم 1250 روپے
ترسیلاتِ زر (غیر ملکی)	غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ	<u>طلباء کی طرف سے تعلیمی اداروں کے لئے</u> 400روپے فلیٹ، کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لئے 40 امریکی ڈالر فلیٹ کے مساوی درخواست دہندہ سے وصول کیا جانا چاہئے اور رقم متعلقہ نوٹسرو اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہئے <u>بیرون ملک دیگر ترسیلات زر</u> فی ٹرانزیکشن 0.10% یا کم از کم 500، کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لئے 40 امریکی ڈالر فلیٹ کے مساوی درخواست دہندہ سے وصول کیا جانا چاہئے اور رقم متعلقہ نوٹسرو اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہئے	سہولت دستیاب نہیں	<u>طلباء کی طرف سے تعلیمی اداروں کے لئے</u> 400روپے فلیٹ، کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لئے 40 امریکی ڈالر فلیٹ کے مساوی درخواست دہندہ سے وصول کیا جانا چاہئے اور رقم متعلقہ نوٹسرو اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہئے <u>بیرون ملک دیگر ترسیلات زر</u> فی ٹرانزیکشن 0.10% یا کم از کم 500، کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لئے 40 امریکی ڈالر فلیٹ کے مساوی درخواست دہندہ سے وصول کیا جانا چاہئے اور رقم متعلقہ نوٹسرو اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہئے	سہولت دستیاب نہیں
	وائر ٹرانسفر	سہولت دستیاب نہیں	سہولت دستیاب نہیں	سہولت دستیاب نہیں	سہولت دستیاب نہیں
اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ	سالانہ	0	0	0	0
	ششماہی	0	0	0	0
	ڈپلیکیٹ	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے
فنڈ ٹرانسفر	ایم ڈی سی/ڈیجیٹل چینلز	<u>MyABL: ABL-ABL</u> : کوئی چارجز نہیں <u>IBFT</u> : فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی۔ فی اکاؤنٹ 25,000 روپے	<u>MyABL: ABL-ABL</u> : کوئی چارجز نہیں <u>IBFT</u> : فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی۔ فی اکاؤنٹ 25,000 روپے	<u>MyABL: ABL-ABL</u> : کوئی چارجز نہیں <u>IBFT</u> : فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی۔ فی اکاؤنٹ 25,000 روپے	<u>MyABL: ABL-ABL</u> : کوئی چارجز نہیں <u>IBFT</u> : فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی۔ فی اکاؤنٹ 25,000 روپے

